


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Appeal No. 2523/2023


S.No.	Date of order, proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	05/12/2023	<p>The appeal of Ms. Farcena Ali Akbar resubmitted today by Sardar Muhammad Asif Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at A.Abad on _____</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

The appeal of Mst. Fareena Ali Akbar received today i.e on 20.11.2023 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.


- 1- Check list is not attached with the appeal.
- 2- Appeal has not been flagged/ marked with annexures marks.
- 3- Address of appellant is incomplete which may be completed according to rule-6 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal rules 1974.
- 4- Annexures of the appeal are unattested.
- 5- In each and every documents the name of the appellant be highlighted.
- 6- Copy of appointment order in respect of appellant be placed on it.
- 7- Annexure-A (Page no. 8 to 15 & 25) of the appeal are illegible which may be replaced by legible/better one.
- ⑧ Five more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 3642 /S.T.

Dt. 21-11 /2023.



REGISTRAR
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.


Sardar Muhammad Asif Adv.
High Court A.Abad.

اعتراض فتح سریندر ایسا 8 بجوڑے دیں
Remand

Remand 1 اعتراض نہ

Remand 2 اعتراض نہ

Remand 3 اعتراض نہ

Remand 4 اعتراض نہ 5/12/23


Remand 5 اعتراض نہ

Remand 6 اعتراض نہ

Remand 7 اعتراض نہ

Remand 8 اعتراض نہ ایسا 4 بجوڑے دیں
ایسا 4 بجوڑے دیں

ایسا 4 بجوڑے دیں


5/12/23

①

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER
PAKTUNKHWA PESHAWAR

2523
Appeal No. ___/2023

Fareena Ali Akbar R/o Teacher Government Girls Primary School
Kand Pain Torghar.

APPELLANT
Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 9238

Dated 20-11-2023

V/S

1. Secretary elementary and Secondary Education KPK, Secretariat
Peshawar.
2. Director elementary and Secondary Education KPK Directorate
Peshawar.
3. District Education Officer (Female) Torghar.

...RESPONDENTS

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT 1974, AGAINST
THE IN-ACTION OF RESPONDENTS QUA TRANSFER OF THE
APPELLANT TO THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA
FROM DISTRICT TORGHAR DESPITE OF THE FACT THAT
APPELLANT HAVE ALREADY SPENT (10 YEARS) MUCH MORE
TIME THEN THE STIPULATED/PRISCRIBED PERIOD AS PER
LAW AND AS PER CONTRACT SIGNED BETWEEN APPELLANT
AND DEPARTMENT.**

AND

**NON GRANTING OF BPS-15 TO THE APPELLANT AFTER
ALMOST TEN YEARS OF CONTINUES SERVICE, UNLIKE
OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS OF DISTRICT MANSHERA**

AND

Filed on day
20/11/23
Registrar

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER
PAKTUNKHWA PESHAWAR

Appeal No. 2523/2023

Fareena Ali Akbar Teacher Government Girls Primary School Kand
Pain Torghar R/o Torghar.

...APPELLANT

V/S

Director Elementary and Secondary Education & Others

...RESPONDENTS

SERVICE TRIBUNAL


INDEX


S.No	Description	Page No	Annexure
1	Service Appeal Along with Affidavit		1-5
2	Copy of Appointment Order	"A"	6-8
3	Copy of One of Affidavit	"B"	9-10
4	Copy of Departmental Appeal	"C"	11-15
5.	VakalatNama		16

Fareena
...APPELLANT

Date 17/11/23

Through


(Sardar Muhammad Asif)

&

(Muhammad Asjad Pervaz Abbasi)
Advocates, High Court
Abbottabad

(1)

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER
PAKTUNKHWA PESHAWAR

Appeal No. 2523/2023

Fareena Ali Akbar Teacher Government Girls Primary School Kand
Pain Torghar R/o Torghar.

...APPELLANT

V/S

1. Director Elementary and Secondary Education KPK Directorate
Peshawar.
2. District Education Officer (Female) Torghar.

...RESPONDENTS

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT 1974, AGAINST THE IN-
ACTION OF RESPONDENTS QUA TRANSFER OF THE APPELLANT TO
THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA FROM DISTRICT TORGHAR
DESPITE OF THE FACT THAT APPELLANT HAVE ALREADY SPENT (10
YEARS) MUCH MORE TIME THEN THE STIPULATED/PRISCRIBED
PERIOD AS PER LAW AND AS PER CONTRACT SIGNED BETWEEN
APPELLANT AND DEPARTMENT.**

AND

**NON GRANTING OF BPS-15 TO THE APPELLANT AFTER ALMOST TEN
YEARS OF CONTINUES SERVICE, UNLIKE OTHER SIMILAR PLACED
TEACHERS OF DISTRICT MANSHERA**

AND

**AGAINST NON-REDRESSAL OF GREVIANCE OF APPELLANT DISPITE OF
REPEATED APPLICATION/PETITION/APPEAL FILED BY THE APPELLANT.**

AND

**AGAINST THE DISCRIMINATION BEING FACED BY THE APPELLANT AT
THE HANDS OF AUTHORITIRS/RESPONDENTS WHEREBY SIMILARLY
PLACED EMPLOYEES WERE TRANSFERRED AND APPELLANT ARE LEFT
TO FACE RIGORS OF HARD AREAS.**

PRAYER:

**ON THE ACCEPTANCE OF INSTANT APPEAL THE RESPONDENTS
MAY BE DIRECTED TO TRANSFER THE APPELLANT TO THEIR NATIVE
DISTRICT I-E MANSHERA AS PER POLICY, FROM DISTRICT TORGHAR,
AND RESPONDENTS MAY ALSO BE DIRECTED TO GRANT BPS-15 TO
THE APPELLANT LIKE OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS AND
RESPONDENTS ALSO BE DIRECTED TO TRANSFER APPELLANT, ANY
OTHER RELIEF WHICH IS DEEMED FIT AND PROPER IN THE
CIRCUMSTANCES BE CASE MAY ALSO BE GRANTED TO THE
APPELLANT.**

2

Respectfully Sheweth:

1. That, the appellant is hailing from District Manshera and are highly educated, having qualification of MA, M.ED, and B.ED etc.
2. That, the appellant were inducted into service on merits as PST BPS-12 in 2013 and 2015 respectively on the strength of District Manshera and were assigned duties to different schools of Torghar, which was once happened to be a provincial administrative tribal area, controlled and managed from District Manshera. **(Copy of Appointment Order is attached as Annexure "A")**
3. That, at the time of appointment, the appellant were directed by the respondents to execute affidavit, individually to the effect that they would serve at torghar continuously for three years without any demand of transfer to their native District nor they would leave the service and after completion of such stipulated period they would be transferred to their own district. The appellant submitted above said affidavit to the respondents. **(Copy of One of Affidavit is Annexed as Annexure "B")**
4. That, besides appellant, there were other teacher who belonged to District Shangla, who were transferred to their District after completion of period of three years as were mentioned in affidavit, and few of them transferred to District Manshera recently.
5. That, since appointment, the appellant were serving at District Torghar, and on completion of agreed period of three years, the appellant moved many application to different forums for their transferred as per law, to their own District but in vain. **(Copy of Departmental Appeal is Attached as Annexure "C")**
6. That, the appellant had been serving the department since 2013 and are still working in BPS 14 to some of the appellant and other are still in BPS-12 unlike other similar teachers of other Districts who had already been granted BPS-15 which itself is a classical example of discrimination. The appellant is entitled for the same scale i-e BPS-15.
7. That, the appellant filled a complained/appeal to the respondents for the redressal of their grievance which has not been decided up till now, hence instant appeal.

Feeling aggrieved from above mentioned in-actions and discriminations of respondents, the appellant have come to this honorable Court on the following inter-alia amongst many other grounds:-

GROUNDS:

1. That, the in-action of non-transferring of appellant to their own District even after spending much more time than stipulated period of three year is illegal, unlawful, perverse, unilateral and against the settled principle of natural justice and fair play.
2. That, as per government policy regarding hard areas, the civil servant must be transferred after one year maximum.
3. That, a lot of similarly placed teachers had already been transferred to their District more particularly District Shangla. Non-transferring of appellant is nothing but to corner the appellant and the appellant is simply victimized of discrimination by the respondents.
4. That, the appellant is female and have to travel for 3 to 4 hours continuously to reach at their destination with fare of almost Rs. 4,000/- per trip, even then the grievance of appellant are not being redressed.
5. That, the appellant had been serving the department since 2013 and are still working in BPS 14 to some of the appellant and other are still in BPS-12 unlike other similar teachers of other Districts who had already been granted BPS-15 which itself is a classical example of discrimination. The appellant is entitled for the same scale i-e BPS-15.
6. That, despite of the continues application/ appeal/ petition/complaint the appellant are still waiting for justice, but a duff ear turn towards them.
7. That, even the transferred policy of the government is put in abeyance by the respondents and the appellant is constrained to serve at the place for along eleven years, which is otherwise hard one.
8. That, other point would be raised at the time of arguments.
9. That, the appeal in hand is well within time.
10. That, the honorable court has exclusive jurisdiction to adjudicate and proper court fee has been annexed.
11. That, notices of appeal in hand has also been issued to respondents.

4

PRAYER:-

IT IS THEREFORE, HUMBLY PRAYED THAT ON THE ACCEPTANCE OF INSTANT APPEAL THE RESPONDENTS MAY BE DIRECTED TO TRANSFER THE APPELLANT TO THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA AS PER POLICY, FROM DISTRICT TORGHAR, AND RESPONDENTS MAY ALSO BE DIRECTED TO GRANT BPS-15 TO THE APPELLANT LIKE OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS AND RESPONDENTS ALSO BE DIRECTED TO TRANSFER APPELLANT, ANY OTHER RELIEF WHICH IS DEEMED FIT AND PROPER IN THE CIRCUMSTANCES BE CASE MAY ALSO BE GRANTED TO THE APPELLANT.

Fozwan

...APPELLANT

Date 17/11/22

Through

(Signature)
(Sardar Muhammad Asif)

&

(Signature)
(Muhammad Asjad Pervaz Abbasi)
Advocates, High Court
Abbottabad

VERIFICATION:-

Verification on oath that contents of the foregoing appeal are true and correct to best of my knowledge and belief and nothing concealed from this honorable tribunal.



Fozwan

...APPELLANT

75

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER
PAKTUNKHWA PESHAWAR

Appeal No. ___/2023

Fareena Ali Akbar R/o Teacher Government Girls Primary School
Kand Pain Torghar.

...APPELLANT

V/S

Secretary Elementary and Secondary Education & Others

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Fareena Ali Akbar R/o Teacher Government Girls Primary
School Kand Pain Torghar, solemnly affirm and declare on oath that
the contents of the titled "Instant Appeal" are true and correct to
the best of my knowledge belief and nothing has been concealed
from this honorable court.

Date. 17/11/23

Fareena

...DEPONENT



2013 میں بھرتی ہونے والی اساتذہ جنتو NCC فراہم کی گئی
 OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) TOR GHAR
 درج ذیل اساتذہ کی فہرست تیار کی گئی ہے
 Anna A26

OFFICE ORDER/APPOINTMENT

Consequent upon the recommendation/ approval of the District selection Committee Tor Ghar in its meeting held on 18/01/2013 (the Competent Authority is pleased to appoint the following fresh trained Female candidates on merit having the prescribed qualification in BPS 12 (Rs.7000 - 500-22000) plus usual allowances as admissible under the rules against the vacant post of PSI (Female) mentioned against each their names on regular basis under the existing policy of the Provincial Govt on terms and conditions given below with effect from the date of their taking over charge in the interest of public service.

"Tappa Wise" District Tor Ghar

S.No	Candidate NAME	Father's Name	Tappa	Qualif:	Score	School/Station where posted	Zone	Remarks
1	Sumaira Gul	Muhammad Ismaeel	Hassan Zal	BA	42.41	GGPS Mareer (HZ)	Summer	Against V /P
2	Farzana Habib	Habib Khan	Bassikhail	BA	42.38	GGPS Gul Dheri (BK)	Summer	Against V /P
3	Saba Gul	Shah Jahan	Mada Khail	BA	42.05	GGPS Maira Mada Khail	Summer	Against V /P

"Open Merit" Adjacent Districts

S.No	Candidate Name	Father's Name	Domicile	Qualif:	Score	School/Station where Posted	Zone	Remarks
1	Ayesha Humma Swali	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	77.80	GGPS Palosa (HZ)	Summer	Against V /P
2	Adeela Shaukat Swali	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	75.70	GGPS Garhi (HZ)	Summer	Against V /P
3	Faiza Tabassum	Muhammad Bashir	Mansehra	MSc	75.65	GGPS Geelo (BK)	Winter	Against V /P
4	Aisha Bibi	Faizul Muhammad	Mansehra	MSc	75.05	GGPS Kand Dala (BK)	Summer	Against V /P
5	Nosheen Kenwal	Sikandar Hayat	Mansehra	MA	65.80	GGPS Gul Dalree (BK)	Summer	Against V /P
6	Phool Bibi	Muhamad Farooq	Mansehra	MA	64.11	GGPS Zeeran (BK)	Summer	Against V /P
7	Raham Bibi	Zamanat Khan	Shengla	BSc	63.78	GGPS Khadang (AZ)	Summer	Against V /P
8	Safia Bibi	Syed Sultan Shah	Mansehra	MA	63.13	GGPS Kand Paayeqn (AZ)	Winter	Against V /P
9	Sadia Shoakat	Muhammad Shoukat	Mansehra	MA	62.64	GGPS New Killay (HZ)	Summer	Against V /P
10	Bibi Saeeda tun Nisa	Oari Abdul Rashid	Mansehra	MA	61.80	GGPS Bimbal (AZ)	Summer	Against V /P

Handwritten signatures and stamps, including a large "TESTED" stamp and a circular stamp.

(8) (7) (2)

	Abdul Hameed	Mansehra	MA	50.74	GGPS Rimba (AZ)	Summer	Against V / P	
12	Elna Jee De	Aurang Zeb	Mansehra	MA	60.64	GGPS Jubb Ho. II	Summer	Against V / P
13	Muhammad Asif	Shangla	MA	50.61	GGPS Dulla Banda (BK)	Summer	Against V / P	
14	Zahira Bibi	Rahim Shah	Mansehra	BSc	56.00	GGPS Khanday (BK)	Summer	Against V / P
15	Mazhar Ullah	Muhammad Haseeb	Mansehra	BSc	57.16	GGPS Ghat (HZ)	Winter	Against V / P
16	Shagufta Bibi	Hazrat Yunus	Shangla	BSc	56.96	GGPS Chagra Barlow (BK)	Winter	Against V / P
17	Tahira Bibi	Abdul Qayyum	Mansehra	BSc	55.52	GGPS Arbay Jabana (AZ)	Winter	Against V / P
18	Ferheena Ali Akbar	Ali Akbar	Mansehra	MA	56.42	GGPS Murata (AZ)	Winter	Against V / P
19	Rani Hadeer	Anullah	Shangla	MA	55.17	GGPS Khanday (BK)	Winter	Against V / P
20	Savaria	Mohammad Iqbal	Mansehra	MA	56.17	GGPS Kand Bal (BK)	Summer	Against V / P
21	Farah Bibi	Nascer ud Din Shah	Mansehra	MA	55.86	GGPS Talgram (HZ)	Winter	Against V / P
22	Jamila Bano	Durl Aman Qureshi	Mansehra	MA	55.44	GGPS Cheer (BK)	Summer	Against V / P
23	Suhaba Bibi	Shamsheer Ali	Shangla	MA	55.16	GGPS Khanday (BK)	Winter	Against V / P
24	Sultra Urool	Munawar Khan	Mansehra	MA	55.03	GGPS Cheer (BK)	Summer	Against V / P
25	Tallal Jabeen	Ashraf Khan	Mansehra	MA	54.70	GGPS Jalka Syedan (BK)	Summer	Against V / P
26	Adar Bibi	Gul Baz Khan	Shangla	MA	54.68	GGPS Gbeto (BK)	Winter	Against V / P
27	Farah Bibi	Abdul Karim	Shangla	MA	53.53	GGPS Kalish (BK)	Winter	Against V / P
28	Sobira Bibi	Khawan Muhammad	Mansehra	MA	53.42	GGPS Doba (BK)	Summer	Against V / P
29	Mumtaz Bagum	Saji Gul	Shangla	MA	53.04	GGPS Doba Bana (BK)	Summer	Against V / P
30	Shamim Akhtar	Gultan Mahmood	Shangla	MA	52.86	GGPS Kalish (BK)	Winter	Against V / P
31	Shahnaz Begum	Siar Khan	Shangla	MA	52.80	GGPS Lona (BK)	Winter	Against V / P
32	Nazma Sherin	Masra Jan	Mansehra	MA	52.79	GGPS Chagra Duda (BK)	Summer	Against V / P
33	Bibi Zainab	Abdul Qayyum	Mansehra	BSc	52.69	GGPS Sukot (BK)	Summer	Against V / P
34	Shabana Kousar	Gohar Rahman	Mansehra	MA	52.64	GGPS Kund Hill (HZ)	Winter	Against V / P
35	Rubia Bibi	Abdul Karim	Shangla	MA	52.62	GGPS Zeerari (BK)	Summer	Against V / P
36	Samina Bibi	Chutem Gwara	Mansehra	MA	52.64	GGPS Zongby (AZ)	Winter	Against V / P

Jubb

Jubb

Jubb

4/c
ATTESTED

CFC
ATTESTED

OK

Office Order/Appointment

Better Copy - 8 Page

Consequent upon the recommendation approval of the district selection committee for ghar in its meeting held on 18-01-2013 the competent authority is pleased to appoint the following fresh trained female candidates on merit having the prescribed qualification in BPS-12 (Rs.7000 500-22000) plus usual allowances as admissible under the rules against the vacant post to PST (Female) mentioned against each their names on regular basis under the existing policy of the Provincial Govt on terms and condition given below with effect from the dates of their taking over charge in the interest of public service.

"Tappa Wise District Tor Ghar

S.No	Candidate Name	Father Name	Tappa	Qualif	Score	School/Station where posted	Zone	Remarks
1	Sumaira Gul	Muhammad Ismaeeli	Hassan Zai	BA	42.41	GGPS Mareer (HZ)	Summer	Against V/P
2	Farzana Habib	Habib Khan	Bassikhail	BA	42.38	GGPS Gul Dheri (BK)	Summer	Against V/P
3	Saba Gul	Shah jahan	Mada Khail	BA	42.05	GGPS Maira Made Khail	Summer	Against V/P

"Open Merit" Adjacent Districts

S.No	Candidate Name	Father Name	Domicilo	Qualif	Score	School/Station where posted	Zone	Remarks
1	Ayesha Humma Swati	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	77.88	GGPS Falosa (HZ)	Summer	Against V/P
2	Adeela Shaukat Swati	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	76.70	GGPS Garhi (HZ)	Summer	Against V/P
3	Faiza Tabassum	Muhammad Bashir	Mansehra	MSc	75.05	GGPS Geeto (BK)	Winter	Against V/P
4	Aisha Bibi	Faqir Muhammad	Mansehra	MSc	75.00	GGPS Kanda Bala (BK)	Summer	Against V/P
5	Nosheen Karwal	Sikander Hayat	Mansehra	MA	65.80	GGPS Gul Dairee (BK)	Summer	Against V/P
6	Phool Bibi	Muhammad Farooq	Mansehra	MA	64.11	GGPS Zeezari (BK)	Summer	Against V/P
7	Raham Bibi	Zamanat Khan	Shangla	BSc	63.78	GGPS Khadang (AZ)	Summer	Against V/P
8	Safia Bibi	Syed Sultan Shah	Mansehra	MA	63.13	GGPS Kand Paayeen (AZ)	Winter	Against V/P
9	Sadia Shoakat	Muhammad Shoukat	Mansehra	MA	62.64	GGPS New Killay (HZ)	Summer	Against V/P
10	Bibi Saeeda tun Nisa	Qari Abdul Rashid	Mansehra	MA	61.80	GGPS Bimbal (AZ)	Summer	Against V/P
11	Sobia Bibi	Abdul Hamid	Mansehra	MA	58.74	GGPS Bimbal (AZ)	Summer	Against V/P
12	Rabna	Aurangzeb	Mansehra	MA	58.64	GGPS Judba	Summer	Against V/P
13								Against V/P
14	Zahirat Bibi	Rahim Shah	Shangla	BSc	58.00	GGPS Kander (BK)	Summer	Against V/P
15	Nazia Haroon	Muhammad Haroon	Mansehra	MA	57.16	GGPS Gangi (HZ)	Winter	Against V/P
16	Shagulia Bibi	Hazrat Younas	Shangla	MA	55.89	GGPS Cirapa Biratoni (BK)	Winter	Against V/P
17	Tahira Bibi	Abdul Qayyum	Mansehra	BSc	53.52	GGPS Arbay Jalband (AZ)	Winter	Against V/P
18	Farheena Ali Akbar	Ali Akbar	Mansehra	MA	55.42	GGPS Muraia (AZ)	Winter	Against V/P
19	Pari Had	Aniullah		MA	55.17	GGPS Khanday (BK)	Winter	Against V/P

ATTESTED

A683229



Handwritten text in Urdu script, appearing to be a title or header for the document.

Handwritten text in Urdu script, likely a name or a specific reference.




Handwritten initials or a signature, possibly 'M Irfan'.

Main body of handwritten text in Urdu script, consisting of several lines of cursive writing.



Handwritten text in Urdu script, possibly a signature or a date.



ATTESTED

Handwritten text in Urdu script, including the word 'etc' and 'ATTESTED'.

BETTER COPY ⁽¹⁰⁾ Page no

بیان طغی

فکد حساۃ لجاں سلجی کڈار دقتہر سید سید اعظم سکندہ خیر آباد تحصیل بلاکوہ قلعہ مانسہرہ
حقایق ہیں کہ فقہ سہ ملازمت حکم ایجوکیشن جس انٹرو لیو و سٹیڈ ریجا
اگر حکم فقہ کو قلعہ قور غسر میں کسی جی سکول میں لھیراں کر دیا تو فقہن وہاں ہم
ڈیوٹی سہ انجام دینے کا پابند ہونا کہ فی سال تک کوئی تبدیلی فقہن نہیں کروائے
اور اگر ہم ملازمت چھوڑے گا اگر فقہن فی سال کے اندر تبدیلی کے پاملازمت
چھوڑے گا تو حکم قور غسر ایوڈ وقت فقہن کے خلاف کاروائی کرنے کا حجاز
ہوگا۔ بیان طغی سید اعظم خیر آباد

صحاۃ لجاں سلجی کڈار

13503-295774-2

ATTES

Anna C

بخدمت جناب سیکرٹری صاحب ایگزیکٹو ڈی ایجوکیشن پشاور

عنوان:-
محکمہ اہل

جناب عالی!

مودبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ 2013ء میں ضلع مانسہرہ سے ضلع تورغر تعینات کئے گئے تھے۔ اس شرائط کے ساتھ کہ ہمیں تین سال بعد اپنے ضلع ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ مگر گیارہ سال ہونے کو ہیں اور ہمیں ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا۔

جبکہ اس دوران 145 ساٹھ اور ضلع تورغر سے تعلق رکھنے والی اساتذہ سفارش اور اعلیٰ تعلقات کی بناء پر اپنے اضلاع ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ یہ سب آپ کے علم میں ہے۔

جناب عالی! DEO (Female) تورغر نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اب ایک یا دو ٹیچرز تورغر سے ٹرانسفر نہیں ہوں گی۔ بلکہ آپ سب کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ جبکہ شازیہ زیب جی جی پی ایس سرگوا اور رضوانہ جی جی پی ایس شوکانی ضلع مانسہرہ اور ایبٹ آباد ٹرانسفر ہو چکی ہیں۔ کیا ان کے جناے سے Staff Gap نہیں ہوگا؟؟ کیا سکول بند نہیں ہوں گے؟ کیا ٹیچرز کی کمی نہیں ہوگی؟؟؟

جناب عالی!

ہم تو آپ سے انصاف کی امید لگائے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شازیہ زیب 2017ء میں Appoint ہوئی۔ مگر ٹرانسفر ہم سے پہلے ہو رہی۔ مس مسیابی بی 2016ء میں Appoint ہوئی مگر ان کی ٹرانسفر کو بھی سال گزر چکا ہے۔ اور اس سوا تورغر ڈویژنل ہولڈ تھیں۔ کس قدر زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس لیے ہمارے پاس کوئی بڑی سفارش نہیں؟؟

جناب عالی! ضلع مانسہرہ سے بھرتی ہونے والی چند اساتذہ کو سکیل 14 دیا گیا ہے جس میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اگر سکیل 14 یا تو NOC نہیں دی جاسکے گی۔ اگر سکیل 14 لینے تو ٹرانسفر کی صورت میں آپ کو سکیل 14 Refuse کرنا پڑے گا۔ ہماری بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہم نے تعلیمی قابلیت ہونے کے باوجود سکیل نہیں لیا کیونکہ ہمارے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہمارے بچے دوسروں کے رحم و کرم پر پل رہے ہیں۔

جناب عالی! ترقی کے نہیں چاہیے اگر ہم اپنے گھروں سے ڈیوٹی برقرار رکھ سکتے تو ہم سکیل 14 لازمی لیتے

ATTESTED

ATTESTED

11 سالوں سے ہم سکیول 12 میں ہی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔

جناب عالی! آپ کے پاس اپنے سکول چلانے کیلئے کئی اور راستے ہیں ہماری زندگیاں قربان کرنے کا راستہ کیوں؟؟؟ ہم ساری زندگی تو رغر کے نام نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے دوسروں کے رکھم و کرم پر رہے ہیں۔ ہمارے گود کے بچے آئے روز نئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ ان تمام باتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لہذا تمام ٹیچرز کا آپ سے پروردہ مطالبہ ہے کہ ان ٹیچرز کی ٹرانسفر کو روکا جائے یا پھر ہم سب کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم عدالت کا رخ کریں گے۔ سیکرٹریٹ جائیں گے۔ سکول بند کریں گے اور جو مناسب ہو اپنے حق کے لیے کریں گے۔ ضلع مانسہرہ سے تعلق رکھنے والی اساتذہ کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

المرقوم: 20-07-2023

Farah	13501-1295774-2	جی جی پی ایس بمبل	بی بی سلمی نگار	1
Rabia	13503-0491117-0	جی جی پی ایس کرنل حسن زئی	رابعہ خاتون	2
Naila	13501-3879556-0	جی جی پی ایس بگدو	صاعقہ	3
Naila	13501-9098694-6	جی جی پی ایس جلینگ	نانکہ بی بی	4
Saimon	13503-5580290-8	جی جی پی ایس کمال بانڈہ	بشرہ بی بی	5
Saimon	13504-7245998-6	جی جی پی ایس بانڈہ دوست محمد	صائمہ بی بی	6
Farah	13501-0421418-0	جی جی پی ایس دارو	تنزیلہ امان	7
Naila	13501-1289875-0	جی جی پی ایس اورٹل	نانکہ بی بی	8
Naila	13504-9484801-6	جی جی پی ایس طہارہ	روبینہ بی بی	9
Naila	13504-1691737-0	جی جی پی ایس گڑھی جدیہ	طاہرہ بی بی	10
Naila	13503-1884845-4	جی جی پی ایس کنڑے	شہناز بی بی	11
Naila	43801-85729818	جی جی پی ایس ملوئے مارنج	سعدیہ بی بی	12
Naila	13504-0574838-0	جی جی پی ایس موراتاں	صائمہ بی بی خاتون	13
Naila	13503-9493867-4	جی جی پی ایس کنڈ پائیں	فرینہ بی بی	14
Naila	13503-7790636-8	جی جی پی ایس مرادو	صفیہ بی بی	15
Naila		جی جی پی ایس	کیمیہ	16

ATTESTED

ATTESTED

حضرت جناب چیف انسٹر صاحب خیرہ نختوگراہ پٹانہ + DC ٹوڈر +
Director ایجوکیشن +

جناب عالی!

معدیہ گزارش ہے کہ ہماری بھرتی 12-PST BPS پر 2013 میں اپنی
میرٹ پر ضلع انسور سے ضلع توڈر میں ہوئی تھی۔ تعلیمی قابلیت اسٹراڈ مشورہ قابلیت M.Ed.
B.Ed اور PTC ہے۔ ہمارے ضلع توڈر میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ہماری بھرتی اس شرط پر
کی گئی کہ توڈر میں ہم جن سال مکمل کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر ضلع انسور میں کر سکتے ہیں۔ جبکہ
حال میں NOC نہیں دی جاری۔ جبکہ اس عرض میں ضلع ٹانگا کی 25 اور تقریباً 20 اساتذہ
ضلع انسور کی ڈانسفر کی گئی ہیں۔

جناب عالی! ضلع انسور میں 2013ء میں بھرتی ہونے والی اساتذہ کو سکیل 14 دیا گیا ہے۔
اس میں شرط یہ رکھی گئی تھی اگر سکیل 14 لینگے تو آپ کو ڈانسفر کے بعد دوبارہ سکیل 14
Refuse کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے ڈانسفر کے خاطر یہ قربانی بھی دے دی۔ کیونکہ ہمارے گھریلو
حالات بہت زیادہ تراب ہیں۔ ہمارے بچے دوسرے کے درجہ کرم پر پڑ رہے ہیں۔
جناب عالی! ترقی کے لئے چاہیے اگر ہم اپنے گھروں سے دور ڈیوٹی پر قرار رکھتے تو ہم سکیل
لازمی لیتے 2013 کی صرف چند معلومات ہیں جو اس وقت 12 سکیل میں ہیں۔

لہذا آپ جناب سے استدعا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر توڈر کو حکم
صادر فرمایا جائے کہ ہمیں NOC فراہم کی جائے۔ کیونکہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی دوسری
سٹاٹس نہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زمانہ) توڈر سے سٹاٹس کر سکیں۔ ہماری آخری امید
آپ میں ہمیں انصاف دیا جائے۔ تمام عمر دعا گو رہیں گے۔
علاوہ ازیں کیونکہ ہم قانونی حق رکھتے ہیں اگر ہم سے پہلے کوئی بھی ٹیچر یہاں سے ڈانسفر ہو کر نہ گئی تو
ہم بھی تامل نہیں کرتے۔

لہذا ہماری فرما کر ہماری درخواست پر غور کیا جائے۔

صبر سید علی اکبر
Director



GOVERNMENT OF
KHYBER PAKHTUNKHWA
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

WB

14

No. SO E&SED (P/E)2-1/Torghar/2023
Dated Peshawar, the 24th July, 2023

To:

The Director,
E&SE Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.

Subject: - DEPARTMENTAL APPEAL

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose herewith a copy of self-explanatory of joint appeal submitted by Bibi Salma Nagar GGPS Bemal District Torghar and others for submission of views/comments within 07-days positively for further processing of the case accordingly.

Facts As above.

[Signature]
SECTION OFFICER (P/E)

Copy forwarded to:

- 1. PS to Secretary E&SE Department Khyber-Pakhtunkhwa.
- 2. Master File.

[Signature]
SECTION OFFICER (M/S)

24 July 2023
20-07-2023
20-07-2023
20-07-2023

CT
[Signature]
ATTESTED

WB
[Signature]
ATTESTED

BETTER COPY

15

**GOVERNMENT OF
KHYBER PAKHTUNKHWA
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT**

No. SO/E&SED (P/F)2-1/Torghar/2023
Dated Peshawar the 24th July, 2023-11-30

To

The Director
E&SE Khyber Pakhtunkhwa
Peshawar

Subject: DEPARTMENTAL APPEAL.

I am directed to refer the subject cited above and to enclose herewith a copy of above explanatory of joint appeal submitted by Bibi Salma Nagar GGPS Bembal District Torghar and others for submission of views/ comments within 07-Days positively for further processing of the case accordingly.

Ends As above.

SECTION OFFICER (P/F)

Endst: of even No & date:

Copy forwarding to the:-

1. PS to Secretary E&SE Department Khyber Pakhtunkhwa.
2. Master File.

SECTION OFFICER (P/F)

556


BC 12-3863

MOB. 0346-9225049

CNIC 37405-657620-1

(16)

وکالت نامہ

Email: maharizmit@asjadadv.com

کورٹ فیس

بعدالت سروس ٹرانسپونل کورٹ P. 16/11/2023

عنوان: فریڈینہ جانی نام سکرم ٹریڈ ایسوسی ایشن دہلی

منجانب: اسد اعجاز

توجیہ مقدمہ: سروس ایس

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب وہی کل کاروائی متعلقہ آن مقام

سروس ٹریڈ ایسوسی ایشن دہلی

کو وکیل مقرر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کمال اختیار ہوگا نیز وکیل

صاحب موصوف کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف دینے اقبال دعویٰ اور بصورت دیگر ڈگری

کرانے اجراء وصولی چیک روپیہ و عرضی دعویٰ کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت

ضرورت مقدمہ مذکور کی کل یا کسی جزوی کاروائی کے لئے کسی اور وکیل یا مختار صاحب قانونی کو اپنے ہمراہ اپنی

جگہ تقرر کا اختیار بھی ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی اور ویسے ہی اختیارات ہوں گے اور اس کا

ساتھ پرواختہ مجھ کو منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب ہوگا اس کے

مستحق وکیل صاحب ہوں گے۔ نیز بقایا رقم وصول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی پیشی مقام دورہ پر ہو یا

حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب موصوف پابند ہوں گے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں اور اگر مختار مقرر کردہ میں

کوئی جزو بقایا ہو تو وکیل صاحب موصوف مقدمہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں گے۔ نیز درخواست ہر اد

استجارت نالش بصیغہ مفلسی کے لئے کرنے اور اس کی پیروی کا بھی صاحب موصوف کو اختیار ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ تحریر کیا تاکہ سند رہے۔

اسد اعجاز

بمقام: قلمبند وکیل اسد اعجاز

المرقوم: 17/11/2023